

۳ مجلہ ادبیات و فن ۱۴۲۰ھ

15 ستمبر 1982ء

دُکُوں - ۵

پندرہ سروے تاریخ و تمدن

MNU Central Library



C071014


پندرہ سروے تاریخ و تمدن

22/06/17
MNU 80 2017
257-

u

5-20

891.
489
2

UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY	
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ជាតީގެ ޖުމްހޫރީ ޔުނިވަރސިޓީ THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY	ACC DATE: 24/3/2019
	ACC NO: C071017
	CLASS NO: 891.489 2 7A12


ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރީ

ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަރުކާރުގެ ދަށުން

100 - 0

UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY	
ACC DATE: 2010/10/10	 UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY OF SAUDI ARABIA RIYADH
ACC NO: 601014	
CLASS NO:	

"جڏهن ته اسان جي ڪتابخانهءَ ۾ موجود ڪتابن جو تعداد ڪو به اندازو نه ڪري سگهجي ٿو، پر اسان جي ڪتابخانهءَ ۾ موجود ڪتابن جو تعداد ڪو به اندازو نه ڪري سگهجي ٿو، پر اسان جي ڪتابخانهءَ ۾ موجود ڪتابن جو تعداد ڪو به اندازو نه ڪري سگهجي ٿو."

100 - 0

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُحَمَّدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دَرَجَاتُ رَحْمَتِهِ كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا هُنَّ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يَعْزُبْ عَنْ عِلْمِهَا مَعَ غَيْرِهَا فَأُولَئِكَ يَجْزِي اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دَرَجَاتُ رَحْمَتِهِ كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا هُنَّ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يَعْزُبْ عَنْ عِلْمِهَا مَعَ غَيْرِهَا فَأُولَئِكَ يَجْزِي اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دَرَجَاتُ رَحْمَتِهِ كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا هُنَّ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يَعْزُبْ عَنْ عِلْمِهَا مَعَ غَيْرِهَا فَأُولَئِكَ يَجْزِي اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دَرَجَاتُ رَحْمَتِهِ كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا هُنَّ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يَعْزُبْ عَنْ عِلْمِهَا مَعَ غَيْرِهَا فَأُولَئِكَ يَجْزِي اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دَرَجَاتُ رَحْمَتِهِ كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا هُنَّ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ يَعْزُبْ عَنْ عِلْمِهَا مَعَ غَيْرِهَا فَأُولَئِكَ يَجْزِي اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

یہ ہے کہ ایک ہی شخص نے ایک ہی وقت میں دو کام کرنا شروع کر دیے اور ان کے نتیجے میں وہ ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔

پھر اس نے ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔

اس کے بعد اس نے ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔

اس کے بعد اس نے ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔

اس کے بعد اس نے ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ہی وقت میں دو کاموں کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔

3 سو اسی اسی نمبر 1402

28 جنوری 1982ء

بھائی صاحب

پتہ: لاہور، پاکستان

اپنے دوستوں کو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ وَرَدُّهُ فِي 1363 هـ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ

جِدْوَيْهِ ، وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ

جِدْوَيْهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ

جِدْوَيْهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ

جِدْوَيْهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ

جِدْوَيْهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ وَنَسَبَ الرُّسُومَ إِلَى رَسْمِهِ

دانشگاه تهران

مؤلف: دکتر محمد علی باقری
موضوع: بررسی وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰
محل چاپ: تهران، انتشارات دانشگاه تهران

۳ جلد، ۱۴۰۲ ر

۲۸ صفحه، ۱۹۸۲ د

دانشگاه تهران

- فصل (۱) -

.....
 ۱. ...
 ۲. ...
 ۳. ...
 ۴. ...
 ۵. ...
 ۶. ...
 ۷. ...
 ۸. ...
 ۹. ...
 ۱۰. ...

...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...! ...!

چو سحر موداد...! ابرو موداد...
 کت برکت... ابرو موداد...
 کور کت... ابرو موداد...
 ابرو موداد... ابرو موداد...
 وکت... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...

پس تو — ای ابرو موداد...؟

برکت تو — ای ابرو موداد...! کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...

کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...

پس تو — کت...؟ کور موداد...؟
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...

برکت تو — کت...! کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...
 کور موداد... کور موداد...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — قَرَأْتُ مَا تَدْعُوهُ بِمَنْزِلِ اللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ...؟

قَرَأْتُ مَا تَدْعُوهُ — أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ مَخْزُومٌ يَرْفَعُ يَدَهُ إِذْ يُدْعَى إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِ يَخْشَى اللَّهَ...؟

بِسْمِ اللَّهِ — أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

قَرَأْتُ مَا تَدْعُوهُ — (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي الْقُرْآنِ كَمَا تَدْعُوهُ فِي الْقُرْآنِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ

أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ...؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ — تَدْعُوهُ دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

بِسْمِ اللَّهِ — أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

بِسْمِ اللَّهِ — أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! دَاعِيَ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِمْ! أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ

فَسَوْرَدَ سِرًّا — أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... وَأَنْتَ لَمْ تَكُنْ تَحْتَمِلُ هَذَا ... تَعْلَمُ فِي ... ؟
أَلَيْسَ بِذَلِكَ دُونَ ... أَنْ تَقْرَأَ نَحْوَ مَا فِي ... وَتَقْرَأَ فِي ... ؟

بَلَى — أَلَيْسَ بِذَلِكَ حَتَّى وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... نَحْوَ مَا فِي ... ؟ ...
نَحْوَ مَا فِي ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...

فَسَوْرَدَ سِرًّا — (نَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...)
بَلَى ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
بَلَى ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
أَلَيْسَ بِذَلِكَ ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
بَلَى — ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
بَلَى ...

فَسَوْرَدَ سِرًّا — بَلَى ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
بَلَى — ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
فَسَوْرَدَ سِرًّا — ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
بَلَى ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...
بَلَى ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ... وَنَحْوِ مَا فِي ... ؟ ...

سادى دىر شوقۇنۇڭغا ئاخىر، غەزىبە ئىچىدە بىر ئىنساننىڭ ئەينى سەھىبە ئىنساننى
 ئۆتۈپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن... ئەينى سەھىبە ئىنساننىڭ ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك...
 بىر قېتىم قىلغۇن ئىشنىڭ ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك... ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك...
 ئەينى سەھىبە ئىنساننىڭ ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك... ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك...
 ئەينى سەھىبە ئىنساننىڭ ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك... ئۆزىگە نەرسە قىلىشى كېرەك...

حسننى بەدە ئىزدەش ئەھۋالىدا ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

۷۰. دەرەخ تىرىشىدىكى خىيال، قىزىق تىرىشىدىكى قىزىق، قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق...
 قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق قىزىق...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...
 ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا... ئىكەنلىكىنى دۇئا قىلىۋاتقاندا...

خبر ساری و خوش - در خبر ساری و خوش ... در خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...

محمد ساری و خوش - خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...

خبر ساری و خوش - خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...

محمد ساری و خوش - خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...

خبر ساری و خوش - خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...
 خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ... خبر ساری و خوش ...

دردی تا به پایتازی ای تا به سوزد تو ای که منم تا به سوزی تو سوزی؟

قرین تا به سوزی تو سوزی — ای سوزد تو سوزی! ای سوزد تو سوزی! در دلت در دلت سوزد تو سوزی!

ای سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! ... محمد تا به سوزی تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

محمد تا به سوزی تو سوزی — ای سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! ای سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

قرین تا به سوزی تو سوزی — ای سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! (و سوزد تو سوزی) ... تا به سوزی تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! ای سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

محمد تا به سوزی تو سوزی — ... ای سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی! و سوزد تو سوزی!

محمد تا به سوزی تو سوزی — التسلام علیکم! ...

قرین تا به سوزی تو سوزی — وعلیکم التسلام! ...

در این سوره میفرماید: محمد ایضا و سایر انبیا که از او پیش آمده اند و از او پس می آید.

خبر خوب ...

محمد ایضا و سایر - از آنست که مصطفی در قرآن است و در سوره های دیگر آمده است و در سوره های دیگر آمده است.

مصطفی - این است که در قرآن آمده است: محمد ایضا و سایر. در سوره های دیگر آمده است: محمد ایضا و سایر. در سوره های دیگر آمده است: محمد ایضا و سایر.

مصطفی - از آنست که در قرآن آمده است: محمد ایضا و سایر. در سوره های دیگر آمده است: محمد ایضا و سایر. در سوره های دیگر آمده است: محمد ایضا و سایر.

... محمد ایضا و سایر... در قرآن آمده است: محمد ایضا و سایر. در سوره های دیگر آمده است: محمد ایضا و سایر. در سوره های دیگر آمده است: محمد ایضا و سایر.

هو الله سبحانه وتعالى... عطفة وسر...
... عطفة وسر...
... عطفة وسر...

مصطفى!

... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...

حسني

... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...

مصطفى!

... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...

حسني

مصطفى!

... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...

حسني

... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...

مصطفى!

... عطفة وسر... عطفة وسر...
... عطفة وسر... عطفة وسر...

... ..

حسنی - ویکوہیہ اُنکوں کے ہاتھوں سے ہونے لگی! ... دھڑکنے سے ہونے لگا

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

حسنی - (سلام سے ہنسنے والی) - کیا میری ہنسنے سے تم کو کچھ یاد آئے گا؟

حسنی - اُسے! کچھ نہیں!

... ..

پسے ڈرو - اے سہرا! سیمچہ! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - سہرا!

پسے ڈرو - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ عزیزو! اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

عزیزو - سہرا!...

سیمچہ - دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

پسے ڈرو؟

پسے ڈرو - دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ عزیزو! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

پسے ڈرو - دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

پسے ڈرو!...

سیمچہ - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

پسے ڈرو - سہرا! اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

پسے ڈرو - سہرا!... دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ عزیزو! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

پسے ڈرو!

دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟ عزیزو! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

سیمچہ - اے سہرا! دیکھو دیکھو یہ تو کون سی ہے؟

وگفتند که در آن زمان که من می‌بودم ...

... حسنی و خیال بر او انداخته بودی ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

و خیال را به او بخشیدم که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

... و گفتی که در آن زمان که من می‌بودم ...

محمد باقر و فرزند - از سر خود، قرص باغی و مرقوم را در کف دست بیضا و سفید از سر خود
 بر سر قرص باغی و فرزند کردند که این یکی از مرقوم است، در روز مرقوم
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 مریم دین - هر روز که در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!

محمد باقر و فرزند - از سر! از سر! از سر! از سر! از سر! از سر! از سر!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 مریم دین - آمین! ... قرص بر سر خود! ...

... در روز مرقوم، محمد باقر و فرزند از سر خود در روز مرقوم در روز مرقوم
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!

حسنی از سر خود، تا به سر خود قرص مرقوم تا به سر خود قرص مرقوم. مریم دین
 تا به سر خود قرص مرقوم، در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!

حسنی - در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 مریم دین - از سر خود! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم، حسنی از سر خود قرص مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!
 در روز مرقوم در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!

مریم دین - در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم! در روز مرقوم!

حسینی

- دتر دعوته یوازی سی، اتر دتر دتر دتر اتر دتر دتر، اتر دتر
 بر دتر دتر دتر دتر؟ اتر دتر! اتر دتر دتر دتر دتر دتر اتر دتر
 دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر! دتر دتر دتر
 دتر! مصطلی اتر دتر دتر... دتر دتر دتر اتر دتر
 یوازی سی، اتر دتر دتر دتر! دتر دتر دتر...
 دتر دتر دتر دتر دتر! دتر دتر دتر... دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر دتر دتر دتر!

مریم دسری

- یوازی اتر دتر دتر دتر! دتر دتر دتر دتر دتر
 اتر دتر دتر... دتر دتر، یوازی دتر دتر دتر دتر...
 دتر دتر اتر دتر دتر دتر، دتر دتر دتر دتر دتر
 ... اتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر
 دتر...! دتر دتر دتر دتر...! دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر! دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر! دتر
 دتر دتر دتر دتر دتر!

دتر دتر دتر، حسینی اتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر حسینی اتر دتر دتر. حسینی دتر دتر دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر...

مریم دسری دتر دتر دتر دتر دتر...

”دتر دتر دتر! اتر دتر، دتر دتر دتر! اتر دتر دتر
 دتر دتر دتر، اتر دتر دتر دتر، دتر اتر دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر!“

حسینی دتر دتر دتر دتر دتر دتر، دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر. اتر دتر دتر دتر دتر دتر
 دتر اتر دتر دتر دتر، دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر
 دتر دتر، دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر دتر
 دتر دتر دتر. دتر دتر دتر دتر دتر، اتر دتر دتر دتر دتر

تَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ، وَتَحْتَسِبُونَ خَيْرًا لِمَا بَدَأْتُمْ بِهِ، لَكُمْ فِيهَا نِعْمَةٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا تَعْلَمُونَ

...؟

حسنی - وعلیکم السلام! ایسا! یہ تو...! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

حسنی - خیر، یہ تو...؟

یہ تو... - ایسا! یہ تو...؟

حسنی - ایسا! ...؟

یہ تو... - ایسا! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

حسنی - ایسا! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

حسنی - ایسا! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

حسنی - ایسا! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

حسنی - ایسا! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

حسنی - ایسا! یہ تو...؟

یہ تو... - خیر! یہ تو...؟

دعوت... شرط، فرض، رکن... دین، دوزخ و سعادت... قرآن و حدیث

پس... (پس از آنکه خداوند این کتاب را نازل کرد) - ان شاء الله تعالی

پس... (پس از آنکه خداوند این کتاب را نازل کرد) - در آن روز هر کس که ایمان آورد...

... در آن روز هر کس که ایمان آورد... در آن روز هر کس که ایمان آورد...

... در آن روز هر کس که ایمان آورد... در آن روز هر کس که ایمان آورد...

... در آن روز هر کس که ایمان آورد... در آن روز هر کس که ایمان آورد...

... در آن روز هر کس که ایمان آورد... در آن روز هر کس که ایمان آورد...

... در آن روز هر کس که ایمان آورد... در آن روز هر کس که ایمان آورد...

... در آن روز هر کس که ایمان آورد... در آن روز هر کس که ایمان آورد...

فصل (۷) -

... حسنی دینی... سعادت و سعادت... سعادت و سعادت...

عزیزه... سعادت و سعادت... سعادت و سعادت...

سعادت... سعادت و سعادت... سعادت و سعادت...

عزيزة

- وَاذْكُرْ نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا

سجدة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا
وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا لَعْنَةُ رَبِّكَ لِأَنَّكَ كَانْتَ تَصَدَّقُ بِالْظُنُونِ
... كَذَّبْتُمْ

عزيزة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا

سجدة

- أَسْرًا أَسْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا
بِأَنَّكَ كُنْتَ تَصَدَّقُ بِالْظُنُونِ
... كَذَّبْتُمْ

عزيزة

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا

سجدة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا
بِأَنَّكَ كُنْتَ تَصَدَّقُ بِالْظُنُونِ
... كَذَّبْتُمْ

عزيزة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا
بِأَنَّكَ كُنْتَ تَصَدَّقُ بِالْظُنُونِ
... كَذَّبْتُمْ

وَأَذْكُرْ نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا
بِأَنَّكَ كُنْتَ تَصَدَّقُ بِالْظُنُونِ
... كَذَّبْتُمْ

عزيزة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا

سجدة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا
بِأَنَّكَ كُنْتَ تَصَدَّقُ بِالْظُنُونِ
... كَذَّبْتُمْ

عزيزة

- وَتَذَكَّرَ أَنْ يَنْسَى نِعْمَةَ رَبِّكَ إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مَدِينًا

سيحة - اذكرتني اذكرتني اذكرتني...! عزيزة عمت بيوتكم حيا عمت
 قد ترون ندمي، قد ترون حزني قد ترون حزني...!
 بيوتكم

عزيزة - في اذكري وفي اذكري...؟

سيحة - اذكري...! حسبي اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...! اذكري...!

عزيزة - اذكري...! اذكري...!

سيحة - اذكري...! اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...! اذكري...!

عزيزة - اذكري...! اذكري...!

سيحة - اذكري...! اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...! اذكري...!

عزيزة - اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...!

سيحة - اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...!

عزيزة - اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...!

سيحة - اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...!

اذكري...! اذكري...!
 اذكري...! اذكري...!

سید مصطفیٰ علیؑ، حسنی دین کو فرماؤ، یہ ہے کہ اے مصطفیٰ اے اے میرے
وہ سب سے بہتر ہے۔

مصطفیٰ - اے میرا! ... حسنی دین کو فرماؤ! ... حسنی دین کو فرماؤ! ...
فرماؤ! ... فرماؤ! ... فرماؤ! ...

دین کو فرماؤ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
محمد! اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
مصطفیٰ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
دفاع! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

محمد! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
دین کو فرماؤ! ...

حسنی - فرماؤ! ...
محمد! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

حسنی - فرماؤ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

محمد! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
فرماؤ! ...

مصطفیٰ - اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
فرماؤ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

فرماؤ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

فرماؤ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

فرماؤ! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...
اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ... اے میرا! ...

قریباً دتر - اسی! حسنی کی سہیلی؟ ...
 حسنی - سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 اسی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 حسنی - اسی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - (اس کی سہیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) حسنی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! ...
 حسنی - اسی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 حسنی - اسی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 حسنی - اسی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 حسنی - اسی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 قریباً دتر - تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!

فصل (۹)۔

..... تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!
 تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی! تمہاری سہیلی!

بجی دستبرد میزند و خود را و می آید و آید که او را
از دست برساند و او را بر سر او بر آید و او را بر سر
آید و او را بر سر او بر آید، و او را بر سر او بر آید.
و او را بر سر او بر آید، و او را بر سر او بر آید
و او را بر سر او بر آید. او را بر سر او بر آید
و او را بر سر او بر آید.

سبحة - سبحان الله! و یا زینب! فدایت را سوگند!

عزیزه - در روز قیامت دستم را بیاوردی؟

سبحة - در روز قیامت، سوگند می کنم که دستم را بیاوردی؟
او که می آید بر روی
دستانش از هر دو سو:

در روز قیامت که با هر دو دست به آید و او را در کف دستش در
سلام بگیرد و او را در کف دستش بیاورد، و او را در کف دستش
بیاورد و او را در کف دستش بیاورد. او را در کف دستش
بیاورد و او را در کف دستش بیاورد. او را در کف دستش
بیاورد و او را در کف دستش بیاورد.

مصطفی - السلام علیکم!

قرین ساجد و سوره - وعلیکم السلام ورحمة الله ربیبی ورحمة
رحمتی ورحمة الله ربیبی ورحمة الله ربیبی ورحمة الله ربیبی ورحمة
الله ربیبی ورحمة الله ربیبی ورحمة الله ربیبی ورحمة الله ربیبی

مصطفی - خود! او که می آید بر روی او
و او را بر سر او بر آید!

قرین ساجد و سوره - مصطفی! او که می آید بر روی او
و او را بر سر او بر آید و او را بر سر او بر آید!

مصطفی - او که می آید بر روی او و او را بر سر او بر آید
و او را بر سر او بر آید. او را بر سر او بر آید
و او را بر سر او بر آید. او را بر سر او بر آید
و او را بر سر او بر آید. او را بر سر او بر آید
و او را بر سر او بر آید.

قوله سخرى رتر - جند دتر رترنا يوقر قترنا انورنا لا سوادد سوادا انا
قردو دترنا قترنا ورتنا برورنا انورنا!

مصطفى انورنا دترنا، كتر قترنا محمد اخذ قترنا قترنا قترنا، قترنا سخرى رتر
قردنا انورنا قردنا انورنا!

قوله سخرى رتر - انورا انورا! انورنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا
قردنا انورا! قترنا دترنا سدرنا انورا، انورنا قترنا خاص انورنا
خاندان انورا قردنا انورا قردنا انورا قترنا انورا!

قردنا قترنا قترنا، مصطفى قترنا قترنا، قترنا قترنا قترنا...

عزیزة كترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا، انورا قترنا قترنا قترنا
قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

عزیزة كترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا، انورا قترنا قترنا قترنا
قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

قردنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا، قترنا قترنا قترنا مصطفى انورا قترنا قترنا
قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا
قترنا سخرى رتر - قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

قترنا قترنا؟

مصطفى - انورا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا
قترنا سخرى رتر - انورا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

مصطفى - (انورا قترنا) - قترنا عزیزة انورا، قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا
قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

قوله سخرى رتر - انورا قترنا! قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا
قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

قترنا قترنا؟

مصطفى - قترنا! قترنا! محمد اخذ قترنا قترنا، قترنا قترنا قترنا، انورا
قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا قترنا

قرینہ ماحریٰ و سرور - قرینہ ادرت و جودت! یا اہمویہ! ...

مصطفیٰ - فدایت امداد کا احسن بخت ہو گا میرے قرینہ ممدت و امداد! یہ بھی فدایت

دیرت ہو گا میرے قرینہ ممدت و امداد! یہ بھی فدایت ہو گا میرے امداد! ...

قرینہ ماحریٰ و سرور - امداد! میرے ہر ممدت و امداد! امداد! یہ بھی فدایت! ...

مصطفیٰ - میرے فدایت قرینہ ممدت و امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! حسن قرینہ ممدت و امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد! ...

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد!

قرینہ ماحریٰ و سرور - یہ بھی فدایت! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

امداد! امداد! امداد! یہ بھی فدایت! و جودت و امداد!

ترتیباً... پیرماتری برود بگو ، مادر دوت کلمه میباید بدانم، عزیزانه من
اخبر برود بگو!

ترتیباً... - اودید ترفوت و ترسیب برود بگو!

مصطفی - سمد ماخری برود و فرما کرد ماخری برود بگو. - اترود و ترسیب برود
دیرا میجو ترود و بگو ماخری، اتر برود ماخری برود و ترسیب برود
دیرا برود بگو...

ترتیباً... - اودید برود بگو، اترود برود بگو، سمد ماخری برود
ماخری برود برود بگو، اترود برود بگو! اترود برود بگو سلام برود بگو
دیرودت برود بگو و ترود و ترود و ترود و ترود و ترود و ترود و ترود و ترود و ترود
ترود برود بگو!

مصطفی - و ترود شکر اترود!... اودید برود بگو، اترود بگو!...
ترتیباً... - اترود خبر برود بگو، اترود برود بگو و ترود و ترود!
مصطفی - اترود! السلام علیکم!
ترتیباً... و علیکم السلام

... مصطفی برود بگو برود بگو، عزیزانه من، ماخری برود بگو
برود بگو، اترود برود بگو و ترود و ترود، اترود بگو و ترود و ترود
عزیزه - اترود! شمیمه! یاد بگو!

شمیمه - ماخری برود بگو!... اترود برود بگو و ترود و ترود!
عزیزه - اترود و ترود و ترود و ترود، اترود برود بگو و ترود و ترود؟
شمیمه - اترود! اترود برود بگو!... اترود برود بگو!...

عزیزه - دترود برود بگو و ترود و ترود، اترود برود بگو؟
شمیمه - اترود دترود برود بگو! اترود برود بگو!... اترود برود بگو
اترود برود بگو.

ترتیباً... اترود برود بگو اترود برود بگو، اترود برود بگو و ترود و ترود
عزیزه - اترود برود بگو. اترود برود بگو، اترود برود بگو و ترود و ترود
اترود برود بگو. اترود برود بگو، اترود برود بگو و ترود و ترود
اترود برود بگو

سمیحه

- منہ سے! دہتر بیچ خریدو تو فوراً ہی؟

عزیزہ

- میری ریڈنگس ڈیڑھ گھنٹہ سے! ...

سمیحه

- جی ہاں، ریڈنگس کرنا ضروری ہے، اس طرح! اگلی دو گھنٹہ میں ریڈنگس کرنا ضروری ہے

عزیزہ

- کون سے ریڈنگس؟ کون سے کرائز اور کون سے ریڈنگس ڈیڑھ گھنٹہ میں؟

سمیحه

- ریڈنگس؟ ... یہ سب ریڈنگس ہیں جو کہ اس وقت کے ریڈنگس ہیں! ...

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

ریڈنگ ہے!

سمیحه

- ہاں! وہی ریڈنگ! یہی ریڈنگ ہے! ... دیکھو اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز

عزیزہ

- اس وقت کے ریڈنگس؟ ... یہی ریڈنگ ہے! یہی ریڈنگ ہے!

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس؟ ... یہی ریڈنگ ہے! یہی ریڈنگ ہے!

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس؟ ... یہی ریڈنگ ہے! یہی ریڈنگ ہے!

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس؟ ... یہی ریڈنگ ہے! یہی ریڈنگ ہے!

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- یہی ریڈنگ ہے! یہی ریڈنگ ہے!

عزیزہ

- ہاں! اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه

- اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز کی

عزیزہ

- (جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے ریڈنگس اور کرائز) ریڈنگس اور کرائز کی

سمیحه - بختِ خیرِ آمو؟

حسن دود - حسنی و شوقی خیر! !

سمیحه - میبویزنا برتر دودونه ترید دودونه سوزنا؟ ...

حسن دود - آدودونه ترید، برتر سوزنا دودونه، دودونه ترید سوزنا دودونه، برتر سوزنا دودونه!

سمیحه - میبویزنا رَد دودونه آمو! ...

حسن دود - آمو! دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه!

سمیحه - محمد شوقی دودونه، میبویزنا دودونه دودونه دودونه دودونه؟

حسن دود - محمد شوقی دودونه دودونه دودونه! برتر سوزنا دودونه برتر سوزنا دودونه، دودونه حسنی سوزنا سوزنا سوزنا سوزنا، دودونه دودونه دودونه!

برتر دود - آمو! شوقی دودونه! ... شوقی دودونه دودونه دودونه دودونه!

برتر دود - برتر دودونه! برتر دودونه دودونه دودونه!

سمیحه - دودونه حسنی آمو، میبویزنا دودونه دودونه دودونه دودونه برتر دودونه

دودونه! ... دودونه دودونه دودونه دودونه حسنی و سوزنا، دودونه دودونه دودونه، عزیزه دودونه، دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه!

عزیزه - شوقی دودونه، دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه؟ ...

سمیحه - دودونه دودونه دودونه!

حسن دود - دودونه دودونه دودونه، دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه

حسنی آمو، برتر دودونه دودونه دودونه دودونه! ... دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه!

برتر دود - آمو! شوقی دودونه! دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه

دودونه دودونه! ... دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه

دودونه دودونه دودونه!

دودونه دودونه دودونه، دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه دودونه

برتر دودونه دودونه! ...

سبحه

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی زبیدی میوه صوفی مکتبش
برو! ... در این مکتب، قندپر است که ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش»

عزیزه

مردی در مکتبش خبر رسید: «! در مکتبش ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

سبحه

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
عزیزه - در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

«... در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»
مردی در مکتبش خبر رسید: «! ستریدی مکتبش است»

مَدَامْ بَرِيءَةٌ. اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ

اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ عَنِيبٌ اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ

حسینی - اے حسن! تو میرے پیوستہ ہو جا اور میرے ساتھ

حسن و تو - پیوستہ ہو جا! کاش تو میرے ساتھ آج، جیسے تُوں
میرے پیوستے ہو؟

حسینی - اے حسن! میرے پیوستہ ہو جا، میرے پیوستہ
ہو جا، میرے پیوستہ ہو جا! ... میرے پیوستہ ہو جا
میرے پیوستہ ہو!

حسن و تو - میرے پیوستے ہو؟ ...

حسینی - میرے پیوستے ہو، میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو
میرے پیوستے ہو؟

حسن و تو - اے حسن! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!

حسینی - اے حسن! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!

حسن و تو - اے حسن! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!
میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!
میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!

حسینی - حسن و تو! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!
میرے پیوستے ہو!

حسن و تو - میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!
میرے پیوستے ہو!

حسینی - حسن و تو! میرے پیوستے ہو! میرے پیوستے ہو!
میرے پیوستے ہو!

دور دوریوں سے سویرا سویرا کھڑا! میرا درد تو کتنی ساکھڑی کھڑی ہے، ڈر کر کہتا ہوں
دشمن کی خیالی ہوا سے! ابھی تو دیکھتا ہوں، اسی وقت کتنی ساکھڑی کھڑی ہے! ...

حسینی - امرا! امرا! عزیزے کی ساری ساری موت میری ہے!

حسن زونڈ - وہ ہے! اسی وقت دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

... یہی ہے! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

وہ ہے! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

سب کو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

حسینی - عزیزے کی ساری ساری موت میری ہے! ابھی تو دیکھو! ...

حسن زونڈ - ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو! ابھی تو دیکھو!

یومئذ انما هی صلیبہا الذی انزلنا فی الذل والذل والذل...
... ذمیت عذیرة من انوار حالہ فی عینہ وبارک
وہو ذمیر ویسوی!

یومئذ انما حسنہ انزلہ درنا ہر خبر ہر وقت ہر روز -
مہرہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ

خدا یومئذ انما حسنہ درنا ہر خبر ہر وقت ہر روز
مہرہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ

عزیزة صوفیہ انوار ویرانہ ہر وقت ہر روز انما حسنہ
صوفیہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
حال انہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ

یومئذ انما حسنہ محمد صوفیہ درنہ درنہ درنہ درنہ
ہر خبر ہر وقت ہر روز انما حسنہ درنہ درنہ درنہ
انما حسنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ
درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ درنہ

سرتوت ، دردی درونم یاد می آید بر تو ، در سحر حسنی و
تاوستح من در راه دروازه و قریب بودی .

از تو مادی در دست ... عزیزه و رفیق حسنی و
من در دروازه کج بودی ؟ ... رفیق دروازه کج بودی .
از می می مانتوت از مادی بر تو ! ...

در دروازه رفیق ، قریب مادی و من در دروازه ، از تو من
در دروازه مادی مادی ، در دروازه و رفیق ، از تو رفیق در
تاوستح عزیزه و تاوستح من . و تاوستح عزیزه و من
رفیق در دروازه . تاوستح من ، تاوستح من ، تاوستح من ،
رفیق سمیحه من . قریب مادی و من در دروازه ، سمیحه من ،
من تاوستح من در دروازه ، در دروازه از تو من در دروازه من
از تو ، در دروازه و رفیق ، عزیزه من و تاوستح من

سمیحه - در سحر از می می مانتوت بر مادی و رفیق !

قریب مادی و من - از تو در دروازه و مادی و من و من ؟ ...

سمیحه - من ! از تو در دروازه من ! مادی و من !

در تو رفیق من ، و من رفیق من در سلام و تاوستح من ، سمیحه
من و تاوستح من ، مصطفی من . قریب مادی و من در دروازه من
من ، و من در دروازه من تاوستح من در دروازه من ...

مصطفی - السلام علیکم !

قریب مادی و من - و علیکم السلام ! رفیق من !

مصطفی - در دروازه حال یا تاوستح من ؟ ...

قریب مادی و من - مادی و من من .

مصطفی - در دروازه من ، تاوستح من در دروازه من ، تاوستح من در دروازه من ، تاوستح من در دروازه من ؟
قریب مادی و من - مادی و من در دروازه من و من در دروازه من ... !

مصطفی - مادی و من در دروازه مادی و من ! از تو در دروازه من !

قریب مادی و من - از تو من و تاوستح من ؟

مصطفی - از تو من و تاوستح من ، و تاوستح من در دروازه من ، در دروازه من مادی و من

عزیزة و صحبة !

قرینہ ماخوذی قرینہ - میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ ! ...

مصطفیٰ - قرینہ! اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

قرینہ ماخوذی قرینہ - اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

مصطفیٰ - قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

قرینہ ماخوذی قرینہ - اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

مصطفیٰ - ... میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

قرینہ ماخوذی قرینہ - اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

مصطفیٰ - اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

قرینہ ماخوذی قرینہ - وعلیکم السلام!

مصطفیٰ میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ... قرینہ! ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

سیحہ - اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

قرینہ ماخوذی قرینہ - (قرینہ! عزیزة و صحبة! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...)

سیحہ - اے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

قرینہ ماخوذی قرینہ - و حال یہ ہے قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

سیحہ - و شہر قرینہ! میرا ہندوؤں کا وقت ہے قرینہ! ...

مردم...

حسن فرد - ایها مردم! مردمانی که در راه خدا...

سمیحه - حسن فرد! مردمانی که در راه خدا...

حسن فرد - ایها مردم! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سمیحه - در راه خدا! در راه خدا...

حسن فرد - در راه خدا! در راه خدا...

سزا بیا دانه قوردا نه! ... هور! چنه سزه گوی که چر سزه دوزده
دنده یه! چنده دونه! دنده سزه "سزه" دنده دنده دنده
سزه؟

حسن دود - (په سزه گوی) دنده نه چر سزه دوزده سزه دنده! ...

په دود - دنده دنده سزه دنده سزه سزه سزه سزه؟

حسن دود - حسنی دنده دنده سزه سزه دنده دنده سزه سزه دنده
دنده سزه!

په دود - حسنی دنده دنده، دنده دنده! دنده دنده دنده دنده

چر سزه دنده سزه دنده، دنده دنده دنده دنده! دنده دنده دنده دنده

دنده دنده، حسنی دنده، دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده

دنده دنده! دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده

سزه دنده!

حسن دود - سزه دنده دنده؟ ... دنده دنده سزه دنده دنده دنده!

په دود - دنده؟ دنده دنده دنده دنده دنده! ... دنده دنده دنده دنده دنده

دنده دنده!

حسن دود - چنه دنده سزه سزه دنده سزه سزه دنده سزه سزه دنده

په دود - دنده! دنده، دنده دنده دنده دنده! دنده دنده دنده دنده دنده

حسنی دنده دنده دنده دنده دنده! دنده دنده حسنی دنده دنده دنده

دنده دنده دنده دنده! ... دنده دنده دنده دنده دنده!

سیمجه - دنده چر دنده دنده دنده دنده دنده دنده!

په دود - دنده دنده دنده دنده؟ ... دنده دنده دنده دنده دنده دنده

دنده دنده، دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده

دنده دنده دنده دنده دنده دنده!

حسن دود - دنده دنده دنده دنده دنده دنده! دنده دنده دنده دنده

سزه دنده دنده دنده؟

په دود - دنده دنده! دنده دنده دنده! دنده دنده دنده دنده!

دنده دنده دنده، دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده دنده

پسے ڈوڈی یا پھر ڈوڈی کا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کی تیرا ماڈرن، اور
 فروری، حسنی کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، جس کا کہہ رہے ہیں
 اور، فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں۔ مصطفیٰ کی فریادوں
 پر پھر فروری، حسنی اور، مصطفیٰ اور فروری اور اور
 سے پھر فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، حسنی کی فریادوں سے فریادیں
 نتیجہ اور، عزیزہ اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 یا پھر فروری۔

پسے ڈوڈی - فروری اور فروری، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں۔
 سے فریادوں سے فریادیں آتی ہیں؟

مصطفیٰ - دیکھو دیکھو، یا پھر اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں!
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں!

پسے ڈوڈی - اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں؟

مصطفیٰ - اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں!

پسے ڈوڈی - اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں؟

مصطفیٰ - اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں!

پسے ڈوڈی - اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں! ...

مصطفیٰ - اور! حسنی اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں، اور فروری کی فریادوں سے فریادیں
 اور فروری کی فریادوں سے فریادیں آتی ہیں!

حسینی

«... ما رو می خورید...» دیوی
زد می خورد و می خورد!...

دیو و دیوی در آن می خوردند و می خوردند...! حسینی
بر باد می خورد، دست می خورد، می خورد، می خورد و می خورد...
دیو می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد!

... مصطفی در آن می خورد، می خورد، می خورد و می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد
می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد، می خورد

محمد ماغوی ورتو - ماغوی ورتو ته څه خبره یې راغوی ستره؟ ... اراغوی ورتو ته وایې چې ماغوی ورتو ته وایې چې ...!

مریم منک - اراغوی ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

محمد ماغوی ورتو - اراغوی ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

مریم منک - اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

محمد ماغوی ورتو - اراغوی ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

مریم منک - اراغوی ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

په ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

محمد ماغوی ورتو - اراغوی ورتو ته وایې چې ... اراغوی ورتو ته وایې چې ...!

قریب آئیں اور، وہ راتوں رات میرا ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہی کہے گا
میرا ساتھ ساتھ، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔

میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔

حسنی - قرآن مجید میں ہے کہ: "وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ آيَاتٍ حَتَّىٰ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ سُلَاطِمًا مِّنَ السَّمَاءِ"۔

مصطفیٰ - "مَنْ لَمْ يُعْطِهُ الدَّهْرُ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا سَاحَ بِهِ الْوَالِطُ يَوْمَ أَوْعَدْنَا"

جس نے اللہ سے دعا کی؟... حسنی نے کہا: "میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔"

حسنی - اسی کے بارے میں ہے کہ: "میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔"

محمد ماعزی نے کہا: "میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔"

مصطفیٰ - اسی کے بارے میں ہے کہ: "میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔"

حسنی - اسی کے بارے میں ہے کہ: "میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔"

محمد ماعزی نے کہا: "میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔"

جس نے اللہ سے دعا کی؟... میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا، وہی کہے گا کہ
وہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا۔

صلح و عفو؟ ... ترموی دین، از آنست که ترموی را مازنی نماند -
 از عفو؟ ... دین دین است، مازنی است، ترموی بیست و پنج
 و عفو! از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی
 دین است، از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی

دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 مازنی دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی

(پیوسته -)

سر. ترموی

۲۳ / ۲ / ۲

از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی
 از آنست که دین دین است، ترموی دین است، ترموی دین است، ترموی

